

Key Fact Statement (KFS) for Deposit Accounts ڈپازٹ اکاؤنٹس کی اہم معلومات کی تفصیل

BANK AL HABIB LTD _____ branch بینک الحبیب لمیٹڈ _____ برانچ	Date: تاریخ	
	IMPORTANT: Read this document carefully if you are considering opening a new account. It is available in English and Urdu. You may also use this document to compare different accounts offered by other banks. You have the right to receive KFS from other banks for comparison. اہم بات: اگر آپ نیا اکاؤنٹ کھولنے پر غور کر رہے ہیں تو اس دستاویز کو غور سے پڑھیں۔ یہ انگریزی اور اردو میں دستیاب ہے۔ آپ اس دستاویز کو دوسرے بینکوں کے پیش کردہ مختلف اکاؤنٹس سے موازنہ کرنے کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو موازنہ کرنے کے لئے دوسرے بینکوں سے کے ایف ایس وصول کرنے کا حق ہے۔	

Account Types and Salient Features:
This information is accurate as of the date above. Services and fees may change on bi-annual basis or as and when deemed necessary by bank.
For updated fees/charges, you may visit our website or visit our branches.

اکاؤنٹ کی قسم اور نمایاں خصوصیات:
یہ معلومات مذکورہ بالا تاریخ تک درست ہیں۔ سروسز اور فیس سال میں دو بار تبدیل ہوسکتی ہیں یا جب اور جیسے بینک ضروری سمجھے۔ اپ ڈیٹڈ فیس/ ترامیم کی معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں یا برانچ پر تشریف لاسکتے ہیں۔

Particulars تفصیلات		Islamic Banking					
		AL Habib Women Islamic Current Account	AL Habib Islamic Freelancer Current Account	AL Habib Islamic Current Account	AL Habib Islamic Basic Banking Account	AL Habib Islamic Remit Current Account	AL Habib Islamic Foreign Currency Current Account
Currency کرنسی		PKR					USD, EURO, GBP
Minimum Balance for Account	To open	0			PKR 1,000/-	0	
	To keep				0		
Account Maintenance Fee اکاؤنٹ مینٹنس فیس		0					
Is Profit Paid on account کیا منافع اکاؤنٹ پر ادا کیا جاتا ہے Subject to the applicable tax rate (قابل اطلاق ٹیکس کی شرح سے مشروط)		N/A					
Indicative Profit Rate. (%) ریٹ (%) انڈیکٹیو پرافٹ		N/A					
Profit Payment Frequencyپرافٹ پیمنٹ فریکوئنسی		N/A					
Provide example: (On each Rs.1000, you can earn Rs.----- on given periodicity) فراہم کردہ مثال: (ہر ۱۰۰۰ روپے پر , آپ مقررہ ميعاد میں ____ روپے کما سکتے ہیں)		N/A					
Premature/ Early Encashment/Withdrawal Fee (If any, provide amount/rate) قبل از وقت/جلد نقدی/واپس لینے کی فیس (اگر کوئی ہے تو رقم/پرٹ فراہم کریں)		N/A					
Free Life Takaful مفت تکافل		Yes		No		Yes (on maintaining minimum monthly average balance of PKR 5,000/-)	
						No	

Service Charges
IMPORTANT: This is a list of the main service charges for this account. It does not include all charges. You can find a full list at our branches, on our website at www.bankalhabib.com.
Please note that all bank charges are exclusive of applicable taxes.

سروس چارجز
اہم بات: یہ اس اکاؤنٹ کے لئے خاص سروس چارجز کی ایک فہرست ہے۔ اس میں تمام چارجز شامل نہیں ہیں۔ آپ کو ہماری برانچز، ویب سائٹ www.bankalhabib.com پر مکمل فہرست مل سکتی ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ تمام بینک چارجز لاگو ٹیکس کے بغیر ہیں۔

Services سہولیات	Modes روایتی	Islamic Banking					
		AL Habib Women Islamic Current Account	AL Habib Islamic Freelancer Current Account	AL Habib Islamic Current Account	AL Habib Islamic Basic Banking Account	AL Habib Islamic Remit Current Account	AL Habib Islamic Foreign Currency Current Account
Cash Transaction نقد لین دین	Intercity انٹرسٹی	0					
	Intra-city شہر کے اندر	0					
	Own ATM withdrawal اپنے اے ٹی ایم سے رقم نکالوان	0					
	Other Bank ATM دیگر بینک اے ٹی ایم	PKR 35/- per transaction					N/A
SMS Alerts Monthly ایس ایم ایس الرٹس ماہانہ	ADC/Digital اے ڈی سی / ڈیجیٹل	-					
	Clearing کلینرنگ	PKR 255/- per month per account					
	For other transactions دیگر لین دین کے لئے	PKR 450/- per month per account					
	For Entity Accounts کمپنی اکاؤنٹس کے لیے	N/A	PKR 450/- per month per account	N/A			
Debit Cards (Issuance & Annual charges)	Visa Silver ویزا سلور	PKR 3,700/-					N/A
	Visa Gold ویزا گولڈ	PKR 4,500/-					
	Visa Platinum ویزا پلائنیم	PKR 10,000/-					
	Visa Signature	PKR 23,000/-					
	UnionPay یونین پیے	PKR 3,000/-					
	Paypak پیے پاک	0 - (Issuance Only) however PKR 2,750 for subsequent issuance if the required monthly average balance of PKR 25,000 is not maintained	PKR 2,750 (Free Issuance/Annual/Renewal on maintaining minimum monthly average balance of PKR 25,000/-)			PKR 2,750 (Free Issuance/Annual/Renewal on maintaining minimum monthly average balance of PKR 5,000/-)	
Cheque Book چیک بک	Issuance اجراء	0 - (First Free Cheque Book 10 Leaves) however PKR 35/- Per leaf for subsequent issuance if the required monthly average balance of PKR 25,000 is not maintained		PKR 35/- per leaf (Free Cheque Book on maintaining minimum monthly average balance of PKR 25,000/-)		PKR 35/- per leaf (Free Cheque Book on maintaining minimum monthly average balance of PKR 5,000/-)	PKR 35/- per leaf (Free Cheque Book on maintaining minimum monthly average balance of PKR 25,000/-)
	Stop payment اسٹاپ پیمنٹ	PKR 750/- per instruction					
	Loose cheque لوز چیک	Not Offered					

		Islamic Banking					
Services سہولیات	Modes روایتی	AL Habib Women Islamic Current Account	AL Habib Islamic Freelancer Current Account	AL Habib Islamic Current Account	AL Habib Islamic Basic Banking Account	AL Habib Islamic Remit Current Account	AL Habib Islamic Foreign Currency Current Account
Remittance (Local) (ترسیلات زر مقامی)	Banker's Cheque / Pay Order بینکر چیک/پے آرڈر	Free upto 3 per month, however PKR 600/- Per cheque for subsequent issuance if the required monthly average balance of PKR 25,000 is not maintained				PKR 600/- (Free on maintaining minimum monthly average balance of PKR 25,000/-)	
Remittance Foreign (ترسیلات زر غیر ملکی)	Foreign Demand Draft غیر ملکی ڈیمانڈ ڈرافٹ	US \$20 plus bank charges. Additional 0.50% or Minimum \$4 will be applicable, if the differential amount that is to be remitted is not maintained with the Bank for minimum period of 15 days.					
	FTT/ Wire Transfer وائر ٹرانسفر	US \$40 plus bank charges. Additional 0.50% or Minimum \$4 will be applicable, if the differential amount that is to be remitted is not maintained with the Bank for minimum period of 15 days					
Statement of Account اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ	Annual سالانہ	0					
	Half Yearly ششماہی	0					
	Duplicate نقل	Statement of A/c upto 6 Months PKR 35/- Statement of A/c Above 6 months Additional PKR 35/- per 6 months					
Fund Transfer فنڈ ٹرانسفر	ADC/Digital Channels ای ڈی سی/ڈیجیٹل چینلز	Free IBFT - Upto PKR. 25,000/- per month / per account. For additional amount above PKR 25,000/- per month / per account, 0.1% of the transaction amount or PKR 200/-, whichever is lower will be charged					
	Others دوسرے	0					
Digital Banking ڈیجیٹل بینکنگ	Internet Banking Subscription (one- time & annual) انٹرنیٹ بینکنگ کی رکنیت (ایک بار اور سالانہ)	0					
	Mobile Banking Subscription (one- time & annual) موبائل بینکنگ سبسکرپشن (ایک بار اور سالانہ)	0					
Clearing کلیرنگ	Normal عام	0					
	Intercity انٹرسٹی	FREE					
	Same Day اسی دن	FREE					
Closure of Account	Customer Request صارف کی درخواست پر	0					
You Must Know آپ کو واقف ہونا چاہیے							
Requirements to open an account: To open the account you will need to satisfy some identification requirements as per regulatory instructions and banks' internal policies. These may include providing documents and information to verify your identity. Such information may be required on a periodic basis. Please ask us for more details. اکاؤنٹ کھولنے کیلئے لازم شرائط: اکاؤنٹ کھولنے کے لیے آپ کو ریگولیٹری ہدایات اور بینکوں کی داخلی پالیسیوں کے مطابق کچھ شناختی تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔ ان میں آپ کی شناخت کی تصدیق کے لیے دستاویزات اور معلومات فراہم کرنا شامل ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی معلومات وقتاً فوقتاً درکار ہو سکتی ہیں۔ براہ کرم مزید تفصیلات کے لیے ہم سے پوچھیں۔				Unclaimed Deposits: In terms of Section 31 of Banking Companies Ordinance, 1962 all deposits which have not been operated during the period of last ten years, except deposits in the name of a minor or a Government or a court of law, are surrendered to State Bank of Pakistan (SBP) by the relevant banks, after meeting the conditions as per provisions of law. The surrendered deposits can be claimed through the respective banks. For further information, please contact your relationship branch. غیر دعویٰ شدہ ڈپازٹس: بینکنگ کمپنیز آرڈیننس، 1962 کے سیکشن 31 کے تحت، وہ تمام ڈپازٹس جو گزشتہ دس سالوں کے دوران غیر فعال رہے ہوں، سوائے ان ڈپازٹس کے جو نابالغ، حکومت یا کسی عدالت کے نام پر ہوں، قانونی تقاضے شرائط پوری کرنے کے بعد متعلقہ بینکوں کے ذریعے اسٹیٹ بینک آف پاکستان (ایس بی پی) کے حوالے کر دیئے جاتے ہیں۔ حوالے کئے گئے ڈپازٹس کیلئے متعلقہ بینکوں کے ذریعے مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ مزید معلومات کے لئے، براہ کرم اپنی ریلیشن شپ برانچ سے رابطہ کریں۔			
Cheque Bounce: Cheque Bounce: Dishonouring of cheques is a criminal offence under Section 489-F of the Pakistan Penal Code of 1860 and Section 20 of the Financial Institutions (Recoveries Of Finance) Ordinance of 2001; and is subject to a criminal trial in Pakistan. Accordingly, you should be writing cheques with utmost prudence. چیک باؤنس: چیکس کی قبولیت سے انکار، ۱۸۶۰ کی پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن ۴۸۹-ف اور فنانشل انسٹیٹیوشن (ریکوری اف فنانس) آرڈیننس کے سیکشن ۲۰ کے تحت ایک مجرمانہ عمل ہے؛ اور اس پر پاکستان میں فوجداری مقدمے کا سامنا ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے، آپ کو انتہائی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے چیک لکھنا چاہیے۔				Closing this account: In order to close your account, kindly visit your Relationship Branch اس اکاؤنٹ کو بند کرنا: اپنا اکاؤنٹ بند کرنے کے لئے، براہ مہربانی اپنی ریلیشن شپ برانچ میں تشریف لے جائیں۔ How can you get assistance or make a complaint? Bank AL Habib Limited, Customer Services Division (CSD), Plot # 28-C, Lane 3, Bukhari Commercial, 2nd, 3rd & 4th Floor, Khayaban-e-Bukhari Branch, Phase VI, DHA Karachi. (021) 35171784-89 (021) 35243591 Helpline: (021) 111-014-014 Email: feedback@bankalhabib.com/info@bankalhabib.com Website: www.bankalhabib.com In case of unsatisfactory resolution, you may also write to the Banking Mohtasib Pakistan at following address: Banking Mohtasib Pakistan, Shaheen Complex, 5th floor, M. R. Kiyani Road, Karachi.http://www.bankingmohtasib.gov.pk/			
I ACKNOWLEDGE RECEIVING AND UNDERSTAND THIS KEY FACT STATEMENT میں اس اہم معلومات کی تفصیل کو وصول کرتے ہوئے سمجھتا ہوں اور قبول کرتا ہوں							
Customer Name: صارف کا نام		Date: تاریخ					
Product Chosen: پروڈکٹ کا انتخاب							
Mandate of account: اکاؤنٹ کا مینڈیٹ		Single/Joint/Either or Survivor انفرادی / مشترکہ / کوئی بھی ایک					
Address: ایڈریس							
Contact No.: رابطے کا نمبر		Mobile No. موبائل نمبر		Email Address: ای میل ایڈریس			
Customer Signature: صارف کے دستخط				Signature Verified: دستخط کی توثیق			
Customer Signature: (Secondary-Incase of Joint Account) (سیکنڈری۔ مشترکہ اکاؤنٹ کی صورت میں)				Signature Verified: دستخط کی توثیق			